

**"WE ARE GOING PINK
FOR TODAY."**



محمد رضوان اور فخر زمان کی 113 رنز کی شراکت نے خیبرپختونخوا کو فائنل میں پہنچا دیا

• ایونٹ کے دوسرے سیمی فائنل میں سندھ کو 8 وکٹوں سے شکست

راولپنڈی، 17 اکتوبر 2020ء:

کپتان محمد رضوان اور فخر زمان کی 113 رنز کی ابتدائی شراکت کی بدولت خیبرپختونخوا کی ٹیم نیشنل ٹی ٹوٹی کپ کے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ خیبرپختونخوا نے ایونٹ کے دوسرے سیمی فائنل میں سندھ کو 8 وکٹوں کے بھاری مارجن سے شکست دے کر فائنل میں رسائی حاصل کی۔

پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم راولپنڈی میں کھیلے گئے میچ میں خیبرپختونخوا نے 143 رنز کا ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ کپتان محمد رضوان اور فخر زمان نے کریز سنبھالتے ہی جارحانہ انداز اپنایا تو سندھ کے باؤلرز دباؤ کا شکار ہو گئے۔ دونوں کھلاڑیوں کے درمیان 65 گیندوں پر 113 رنز کی شراکت نے کے پی کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔

کپتان محمد رضوان نے 50 گیندوں پر 67 رنز کی اننگز کھیلی۔ ان کی اننگز میں 11 چوکے شامل تھے۔ بائیں ہاتھ کے اوپنر فخر زمان 29 گیندوں پر 8 چوکوں اور 2 چھکوں کی مدد سے 57 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ دونوں کھلاڑیوں کو دانش عزیز نے رخصت کیا۔ اوپنرز کے پویلین واپس لوٹنے پر تجربہ کار محمد حفیظ اور شعیب ملک نے کریز سنبھالی، دونوں بلے باز بالترتیب 12 اور 6 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔

خیبرپختونخوا نے مطلوبہ ہدف 14.5 اوورز میں حاصل کر لیا۔

اس سے قبل محمد رضوان نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تو سندھ کی مضبوط بیٹنگ لائن اپ میچ کے آغاز سے ہی مشکلات کا شکار نظر آئی۔ فاتح ٹیم کی عمدہ باؤلنگ کے سامنے شرجیل خان صفر، اسد شفیق 1، اعظم خان صفر، سہیل خان 9، سرفراز احمد 4، انور علی 3، محمد حسنین 1 اور غلام مدثر 1 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔

سندھ کے صرف 2 کھلاڑی ہی ڈبل فگرز میں داخل ہوسکے۔ خرم منظور 74 اور دانش عزیز 39 رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔ دونوں بلے بازوں نے چھٹی وکٹ کے لیے 80 رنز کی شراکت قائم کی۔ سندھ کی پوری ٹیم 19.5 اوورز میں 142 رنز بناکر آؤٹ ہوئی۔

میچ میں شاندار اننگز کھیلنے پر خیبرپختونخوا کے کپتان محمد رضوان کو مین آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔

ایونٹ کا فائنل سدرن پنجاب اور خیبرپختونخوا کے درمیان اتوار کی شام ساڑھے سات بجے کھیلا جائے گا۔

About the National T20 Cup

- The 2020-21 season curtain-raiser under [Covid-19 protocols](#) will be held from 30 September to 18 October with the First XI matches in Multan and Rawalpindi, and Second XI matches in Lahore. Complete event and season's schedule available [here](#)
- Imad Wasim's Northern will defend the title they won in 2019-20 after defeating Balochistan in front of a packed-to-capacity Iqbal Stadium, Faisalabad. Other four sides are Central Punjab, Khyber Pakhtunkhwa, Sindh and Southern Punjab
- Pakistan's very best white-ball cricketers will feature in the competition. Complete player squads are available [here](#).
- As part of the US\$200million agreement with PTV Sports and I-Media Communications Services, the event will be produced by the PCB and broadcasted live on PTV Sports. Click [here](#) to read more about the three-year agreement
- The First XI event carries a total prize money of PKR9million with the winner collecting a cheque of PKR5million and the runner-up receiving PKR2.5million.
- With one eye on the ICC T20 World Cups 2021 and 2022 the First XI matches will be held on double-league, meaning each player will get a minimum of 10 matches to impress the national selectors as well as franchise owners for the HBL Pakistan Super League 2021
- With match fee for white-ball matches set at PKR40,000, the double-league format provides a high-performing player to earn, at least, PKR400,000. This is part of the PCB's strategy and commitment to enhance earning opportunities as well as to reward high-performing cricketers
- To know and understanding potential player earnings in the 2020-21 domestic season, please click [here](#)

HELP PREVENT CORONAVIRUS



National Team Partners



Domestic Partners



- www.pcb.com.pk
- @therealpcb
- @PakistanCricketBoard
- @PakistanCricketOfficial
- @therealPCB

PCB Headquarters
Gaddafi Stadium,
Ferozpur Road, Lahore
Pakistan, PO Box 54000
T: +92 42 3571 7231-4